

# مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

## MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)

Gachibowli , Hyderabad -500032

مذکورہ کام: ڈپلوماں جرنلزم اند ماس کیوں کیش (فاصلاتی) 2018-2019

حدایات: مذکورہ کام (Assinments) مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کیڈ پلوماں جرنلزم اند ماس کیوں کیش پروگرام کا لازمی جز ہیں۔ مذکورہ کام کے لیے 30 نمبرات مختصر ہیں۔ ہر پرچے کے تین مذکورہ کام ہیں۔ آپ کو ہر پرچے کے مذکورہ کاموں کے جوابات تحریر کرتے ہوئے مقررہ تاریخ پر داخل کرنے ہوں گے۔ (سمولت کی ناظر ہر مذکورہ کام کے تین نمبر رکھے گئے ہیں۔ ان کا اوسط آپ کے سالانہ امتحان کے نمبرات میں شامل کیا جائے گا)۔ مذکورہ کام میں کامیابی کے لیے جملہ 30 نمبرات میں سے بارہ (12) نمبرات حاصل کرنے ہوں گے۔ بی۔ اے (فاصلاتی) سال کے اختتام پر سالانہ امتحان ہوگا۔ اور ہر پرچے کے 70 نمبرات ہوں گے۔ ہر پرچے میں کامیابی کے لیے 28 نمبرات حاصل کرنا لازمی ہے۔ مذکورہ کام تحریر کرنے سے متعلق ضروری ہدایات مندرجہ ذیل ہیں۔

طالبہ کے لیے ضروری ہے کہ کن کتابوں سے یہ مادے لیا گیا ہے اس کا Source یعنی حوالہ ضرور دیں اور ہر مذکورہ کام کے جوابات علحدہ، مناسب، سفید اور فل اسکی پ کاغذ پر اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ جوابات پر سوال نمبر ضرور درج کیجیے اور ہر صفحے پر دونوں جانب کم از کم 4 سنتی میٹر حاشیہ چھوڑیے۔ مذکورہ کام کے کاغذات احتیاط کے ساتھ اپنے متعلقہ اسٹڈی سنتر کے کوآرڈینیٹر کے نام بذریعہ ڈاک ارسال کیجیے یا شخصی طور پر حوالے کریں۔ کوآرڈینیٹر سے رسید بھی لجیے۔ اگر آپ مذکورہ کام داخل نہ کر سکیں یا کم سے کم 12 نمبرات حاصل نہ کر سکیں تو آپ کو آئندہ بیچ (Batch) کے مذکورہ کام کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کے لیے نظمت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مذکورہ کام میں کامیابی کے بعد نمبرات میں مزید اضافہ کے لیے دوسری بار داخل نہیں کیا جاسکتا۔ Assignment

نوٹ: طلبہ کو چاہیے کہ مذکورہ کام کے کاغذات کے پہلے صفحے پر درج ذیل تفصیلات فراہم کریں اور ممتحن کی رائے کے لیے جگہ خالی رکھیں۔

نام: \_\_\_\_\_ اسٹڈی سنتر: \_\_\_\_\_

پستہ: \_\_\_\_\_ اندر ارج نمبر: \_\_\_\_\_

پروگرام: ڈپلوماں جرنلزم اند ماس کیوں کیش تاریخ: \_\_\_\_\_ دستخط: \_\_\_\_\_  
ممتحن کی رائے: \_\_\_\_\_

مذکورہ کام (Assignments) داخل کرنے کی آخری تاریخ:

(1) پہلا مذکورہ کام: مارچ، 2019 کا آخری ہفتہ

(2) دوسرا مذکورہ کام: اپریل، 2019 کا تیسرا ہفتہ

(3) تیسرا مذکورہ کام: مئی، 2019 کا دوسرا ہفتہ

مقررہ تاریخ کے بعد تفویضات (Assignments) قبول نہیں کیے جائیں گے۔

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  
 ڈپلوم ان جرnlزم اینڈ ماس کمیونیکیشن  
 پانچواں پرچہ: ترجمہ اور زبان دانی  
 مفہوم کام۔ا (Assignment 1)

ہدایات:

یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

- .1 حصہ اول میں 5 لازمی سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہر سوال کے لئے 2 نمبرات مختص ہے۔ [05x02=10]
- .2 حصہ دوم میں چار سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو دو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کے لئے 5 نمبرات مختص ہیں۔ [02x05=10]
- .3 حصہ سوم میں تین سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی ایک سوال کے جواب دینے ہیں۔ سوال کے لئے 10 نمبرات مختص ہے۔ [01x10=10]

حصہ اول

- .1 مندرجہ ذیل اردو محاوروں کے معنی بتائیے۔

- a. سال بھاری ہونا۔
- b. کمان چڑھنا
- c. سبز باغ دکھانا
- d. علیت لگھارنا
- e. دور سے لینا۔

حصہ دوم

- .1 ترجمہ کی تعریف بیان کیجئے۔
- .2 ترجمہ کے اہم مسائل کیا ہیں؟ بتائیے۔
- .3 دفتری ترجیع کی اہمیت پر اپنے خیال کا اظہار کریں۔
- .4 ترجمہ کے اہم میدان کون کون سے ہیں؟

حصہ سوم

- .1 تھیوڈرساوری کے اصول کو بیان کریں۔
- .2 اصطلاح سازی کیوں ضروری ہے؟ رائے دیں۔
- .3 مترجم کے بنیادی فرانچ کیا کیا ہیں؟



مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  
 ڈپلوم ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن  
 پانچواں پرچہ: ترجمہ اور زبان دانی  
 مفہوم کام-2 (Assignment 2)

ہدایات:

یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

- [05x02=10] حصہ اول میں 5 لازمی سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہر سوال کے لئے 2 نمبرات مختص ہے۔
- [02x05=10] حصہ دوم میں چار سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو دو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کے لئے 5 نمبرات مختص ہیں۔
- [01x10=10] حصہ سوم میں تین سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی ایک سوال کے جواب دینے ہیں۔ سوال کے لئے 10 نمبرات مختص ہے۔

حصہ اول

1. مندرجہ ذیل انگریزی محاوروں کو اردو میں تبدیل کریں؟

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| To go to dogs                    | .a |
| I smell a rat                    | .b |
| He is going to dog               | .c |
| To keep a straight face          | .d |
| I could not keep a straight face | .e |

حصہ دوم

- 1. ترجمہ نگاری میں قواعد سے واقفیت کس حد تک ضروری ہے؟
- 2. مرکب لفظ سے کیا مراد ہے؟
- 3. ہندوستانی لپی منظر میں ترجمہ نگاری کیوں ناگزیر ہے؟ بتائیے۔
- 4. صحافتی ترجمہ کی اہمیت بیان کریں۔

حصہ سوم

- 1. لسانیات پر اپنی معلومات کا اظہار کریں۔
- 2. ترجمہ اور ثقافت کے رشتے کو واضح کیجئے۔
- 3. قانونی ترجمہ کے تقاضوں پر روشنی ڈالیئے۔
- 4. ترجمہ میں قواعد سے پیدا ہونے والے مسائل کو واضح کریں۔



**مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی**  
**ڈپلوم ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن**  
**پانچواں پرچہ: ترجمہ اور زبان دانی**  
**مفوضہ کام-3 (Assignment 3)**

ہدایات:

یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

- [05x02=10] 1. حصہ اول میں 5 لازمی سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے۔ ہر سوال کے لئے 2 نمبرات مختص ہے۔
- [02x05=10] 2. حصہ دوم میں چار سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو دو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کے لئے 5 نمبرات مختص ہیں۔
- [01x10=10] 3. حصہ سوم میں تین سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی ایک سوال کے جواب دینے ہیں۔ سوال کے لئے 10 نمبرات مختص ہے۔

حصہ اول

1. موضوع کے لحاظ سے ترجمہ کی فتمیں ہیں؟

- |       |    |                         |    |            |    |   |  |
|-------|----|-------------------------|----|------------|----|---|--|
| تینوں | .d | صحافی ترجمہ             | c. | علمی ترجمہ | b. | a. ادبی ترجمہ   |  |
|       |    |                         |    |            |    | ایک مترجم کی واقفیت ہونی چاہئے۔   |  |
|       |    |                         |    |            |    | a. قواعد سے واقفیت  |  |
|       |    | تخلیق کی زبان سے واقفیت | b. |            |    | c. تشبیہات سے واقفیت  |  |
|       |    |                         |    |            |    | 3. تیودرس اوری کے مقالہ کا اردو ترجمہ کیا ہے۔   |  |
|       |    |                         |    |            |    | a. آصفیہ جمیل   |  |
|       |    |                         |    |            |    | c. پروفیسر شافع قدوالی  |  |
|       |    |                         |    |            |    | d. گوپی چند نارنگ   |  |
|       |    |                         |    |            |    | 4. شاہ پر ٹگال سنگ نے ”دی لائل کوسلر“ نامی کتاب میں ایک مترجم کی کتنی خصوصیات کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ |  |
|       |    |                         |    |            |    | a. چار  |  |
|       |    |                         |    |            |    | b. پانچ   |  |
|       |    |                         |    |            |    | c. سات  |  |
|       |    |                         |    |            |    | d. پھ   |  |
|       |    |                         |    |            |    |   | 5. The Best way Translating from one Language to another |
|       |    |                         |    |            |    |   | Draft Qamar Rayees .b Etienne Dolet .a                   |
|       |    |                         |    |            |    |   | Shamsur Rahman Faruqi .d Harivansh Rai Bachchan .c       |

## حصہ دوم

- .1 ترجمہ نگاری کے مقاصد بیان کریں۔
- .2 ترجمہ میں مفہوم کے علاوہ اور کیا منتقل ہوتا ہے؟
- .3 مختلف ادواروں میں ترجمہ کی کیا اہمیت رہی ہے؟
- .4 علمی ترجمہ سے کیا مراد ہے؟

## حصہ سوم

- .1 ثقافت کیا ہے؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔
- .2 ترجمہ کے فن پر مختصر اروشنی ڈالیئے۔
- .3 ایک مترجم میں کیا کیا خصوصیات ہونے چاہئے؟ بیان کریں۔

